



جو شخص کسی غلام میں اپنے حصہ کو آزاد کر دے ، تو کسی عادل شخص سے غلام کی قیمت لگوائی جائے گی اور اس کے بقیہ شرکا کے حصہ کی قیمت بھی اسے ادا کرنی ہوگی ، بشرط کہ اس کے پاس غلام کی قیمت کے بقدر مال ہو اس طرح پورا غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا...

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ” جو شخص کسی غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کر دے ، تو کسی عادل شخص سے غلام کی قیمت لگوائی جائے گی اور اس کے بقیہ شرکا کے حصہ کی قیمت بھی اسے ادا کرنی ہوگی، بشرط کہ اس کے پاس اس قدر مال ہو جتنی غلام کی قیمت ہے اور اس طرح پورا غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا؛ لیکن اگر اس کے پاس مال نہ ہو، تو ایسی صورت میں بس اسی قدر غلام آزاد ہوگا، جتنا اس نے آزاد کیا“

[صحیح] [متفق علیہ]

جو شخص کا کسی غلام یا لونڈی میں حصہ ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اپنے حصہ کے بقدر آزاد کر دے، تو اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے حصہ کی آزادی عمل میں آ جائے گی اب اگر آزاد کرنے والا اپنے شراکت داروں کی قیمت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ غلام کو اپنے اور شریک کے حصہ سے مکمل آزادی دلائے گا اور اپنے شریک کے حصہ کی قیمت مارکیٹ کی قیمت کے مطابق دے گا اور اگر وہ شریک کے حصہ کی قیمت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو غلام کی آزادی پر کوئی نقص واقع نہیں ہوگا وہ صرف اس کے حصہ کے بقدر آزاد ہوگا اور اس کے شریک کے حصہ کے بقدر غلام کی غلامی برقرار رہے گی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2992>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

